

برائے فوری اجراء

FDI انٹیلیجنس کی جانب سے 2021 کی درجہ بندی میں برامپٹن کو مستقبل کے حوالے سے ایک سرکردہ شہر اور سرمایہ کاری کے لیے شاندار مقام ہونے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے

برامپٹن، آن (8 جون 2021) – آج فنانشل ٹائمز (یو کے) کے ایک ڈویژن FDI انٹیلیجنس کی جانب سے امریکن سٹیز آف دی ایئر ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق امریکہ کے شاندار مستقبل کے حامل چوٹی کے 10 درمیانے درجے کے شہروں میں سے سٹی آف برامپٹن کو چھٹے نمبر پر رکھا گیا ہے۔

برامپٹن کو مربوط شہروں کے زمرے میں بھی امریکہ کے شاندار مستقبل کے حامل چوٹی کے 10 درمیانے درجے کے شہروں میں سے دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے – اور FDI سٹریٹیجی کے زمرے میں امریکہ کے چوٹی کے 25 درمیانے درجے کے شہروں میں سے بارہویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔

برامپٹن کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI کی کوششوں کی توجہ کا مرکز شہر کے یہ کلیدی شعبے ہیں: جدت اور ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور صحت اور لائف سائنسز۔ 2020 میں، شہر کی FDI حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر کاروباروں کی بحالی اور توسیع پر اضافی زور دیا گیا تھا۔

سرمایہ کاری، سٹی کی [معاشی بحالی کی حکمت عملی](#) کا ایک بنیادی ستون ہے، جسے برامپٹن سٹی کونسل نے مئی 2020 میں منظور کیا تھا۔ سٹی کے انویشن ڈسٹرکٹ کا بندریج فروغ اس حکمت کا ایک دوسرا کلیدی حصہ ہے۔ معاشی بحالی کی حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی معیشت میں کشش پیدا کرنا اور اسے مسابقتی فائدہ پہنچانا ہے اور یہ چیز شہر کو کووڈ-19 کی وبائی بیماری کے اثرات سے چھٹکارا پانے میں مدد فراہم کرے گی۔

ایف ڈی آئی انٹیلیجنس کی جانب برامپٹن کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ ان درجہ بندیوں کی ہر دو سال کے بعد تجدید کی جاتی ہے اور پچھلے آٹھ سال سے برامپٹن کو دوستانہ کاروباری ماحول، مستقبل کے شہر، انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی جیسے زمروں میں مسلسل پہلے اور چوٹی کے درجوں پر رکھا جاتا رہا ہے۔

شہروں کی درجہ بندی کرنے کے حوالے سے FDI انٹیلیجنس کی جانب سے پانچ زمروں کو زیر لایا جاتا ہے: اقتصادی طاقت، کاروبار کے لیے دوستانہ ہونے، انسانی وسائل اور زندگی گزارنے کے طریقے، قیمتوں کے اثر اور روابط

مکمل نتائج اور درجہ بندیوں کے حوالے سے مزید معلومات [یہاں](#) پر دستیاب ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور اس میں ذہین اور باصلاحیت افراد کی فراوانی ہے جو جدت کے حوالے سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ ہم FDI انٹیلیجنس کی جانب سے امریکہ کے شاندار مستقبل کے حامل چوٹی کے 10 درمیانے درجے کے شہروں میں رکھے جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔" یہ ایوارڈ اس بات کی توثیق کرتے ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں – یعنی برامپٹن دنیا کا ایک صف اول کا شہر ہے اور عالمگیر کاروباروں کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"جب ہم کووڈ-19 کی عالمگیر وباء کے اثرات پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھنے کا آغاز کریں گے، تو سرمایہ کاری برامپٹن کی معیشت کو پرکشش بنانے اور مسابقتی فائدہ پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ہم FDI انٹیلیجنس کی جانب سے امریکن سٹیز آف دی ایئر ایوارڈز کے لیے دوبارہ تسلیم کیے جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور تمام بیرونی کمپنیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ برامپٹن کو کیا چیز مستقبل کا ایک سرکردہ شہر بنا رہی ہے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سرمایہ کاری شہر کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک کلیدی ستون ہے اور برامپٹن ایک جدت پسند شہر بننے اور پوری دنیا کے کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا ایک پرکشش مقام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ برامپٹن کو مستقبل کے درمیانے درجے کے چوٹی کے شہروں میں رکھنے پر ہم fDI کے اعزاز کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ دنیا کا بہترین شہر ہونے کی حیثیت سے ہم کاروباری اداروں کا شاندار استقبال کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کے منتظر ہیں۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور کینیڈا کے انویشن کوریڈور کے ایک شاندار مقام پر ہماری موجودگی اور مسابقتی افرادی قوت کی اولین حیثیت رکھنے پر، ہم غیر ملکی کاروباروں کے لیے اپنے آپ کو ایک بہترین مقام کے طور پر قائم اور بحال رکھنے کے متمنی ہیں۔ سٹی آف برامپٹن کے عملے کی جانب سے، میں fDI انٹیلیجنس کی جانب سے سرمایہ کاری کی ایک اہم جگہ ہونے کے طور پر دوبارہ تسلیم کیے جانے پر فخر کا اظہار کرتا ہوں اور غیر ملکی کاروباروں کا خیرمقدم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پرعزم معاشی ترقیاتی عملے سے رابطہ کر کے یہ جانتیں کہ برامپٹن انہیں کیا کچھ پیش کر سکتا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca